

FREQUENT PHRASES – DICTIONARY FOR UASC

Urdu/اردو	Serbian/سربین	Serbian Pronunciation in Urdu/سربین میں کیسے بولتے ہیں
میں کہاں ہوں؟	Gde sam ja?	گدے سام یا؟
بس سٹیشن کہاں ہے؟	Gde je autobuska stanica?	گدے یہ اوتوبسکا ستانیتسا؟
مجھے مدد کی ضرورت ہے۔	Treba mi pomoć.	تربیا می پوموچ۔
مجھے بھوک لگی ہے۔	Gladan sam.	گلادان سام۔
مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔	Treba mi lekar.	تربیا می لیکار۔
مجھے درد ہو رہا ہے۔	Boli me.	بولی مے۔
مجھے ترجمان کی ضرورت ہے۔	Treba mi prevodilac.	تربیا می پریوودیلاتس۔
میں مشکل میں ہوں۔	Imam problem.	ایمام پر اہلم۔
پولیس کہاں ہے؟	Gde je policija?	گدے یہ پولیسیا؟
میں اکیلا سفر کر رہا/رہی ہوں۔	Putujem sam.	پوتویم سام۔
میرے پاس پیسے نہیں۔	Nemam novac.	نیمام نوواتس۔
میرے کاغذ گم ہو گئے ہیں۔	Izgubio sam dokumenta.	ازگوبیو سام داکومینتا۔
میرے پاس کاغذات نہیں۔	Nemam dokumenta.	نیمام داکومینتا۔
کیا یہاں انٹرنیٹ ہے؟	Da li ima interneta?	دا لی ایما انترنیٹا؟
مجھے رہنے کی جگہ چاہیے۔	Treba mi smeštaj.	تربیا می سمیشٹائی۔
جگہ کتنی دور ہے؟	Koliko je daleko?	کولیکو یہ دالیکو؟
میں وہاں کیسے پہنچ سکتا/سکتی ہوں؟	Kako mogu da stignem?	کاکو موگو دا ستیگنم؟

FREQUENT PHRASES – DICTIONARY FOR UASC

میں پناہ کی عرضی دینا چاہتا/چاہتی ہوں۔ میرا کوئی نہیں۔	Želim da zatražim azil.	بیلیم دا تراہیم آزل۔
میں گھر والوں سے جدا ہو گیا/گئی ہوں۔ میری طبیعت خراب ہے۔	Ostao sam bez porodice.	اوستاو سام بیز پورودتسے۔
میں گھر والوں سے جدا ہو گیا/گئی ہوں۔ میری طبیعت خراب ہے۔	Razdvojio sam se od porodice.	رازدویو سام سے اود پورودتسے۔
مجھے اغوا کر لیا گیا ہے۔ مجھے مارا ہے۔	Loše mi je. Otet sam.	لوٹسے می یہ۔ اوتت سام۔
مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔	Tukli su me. Prete mi.	تکلی سو مے۔ پریتے مے۔
میرا نام ... ہے میں..... سال کا/کی ہوں۔ میں گم ہو گیا/گئی ہوں۔	Zovem se. Imam..... godina. Izgubljen sam.	زوہم سے ... ایمام.... گو دینا۔ ایزگوبلین سام۔
تمہارا کیا نام ہے؟ میں زبان بولتا/بولتی ہوں۔	Kako se zoveš? Ja govorim....	کاکو سے زویش۔ یا گووریم...
میں محفوظ نہیں۔ میں سکول جانا چاہتا/ چاہتی ہوں۔	Nisam bezbedan. Hoću da učim.	نیسام بیزبیدان۔ ہوچو دا اوچیم۔
ٹائلیٹ کہاں ہے؟ میں شاور کرنا چاہتا/چاہتی ہوں۔	Gde je WC? Želim da se kupam.	گدے یہ ویتسے؟ بیلیم دا سے کوپام۔
میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا/چاہتی ہوں۔	Želim da pričamo sami.	بیلیم دا پریچامو سامی۔
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے انگلیوں کے نشان دے دیے ہیں۔	Gde idemo? Dao sam otiske prstiju.	گدے ایڈیمو؟ داؤ سام اوتسکے پرستیو۔
میں نے انگلیوں کے نشان نہیں دیے۔ مجھے کاغذ نہیں دیا۔	Nisam dao otiske prstiju. Nisu mi dali papir.	نیسام داؤ اوتسکے پرستیو۔ نیسو می دالی پاپیر۔
میں کیمپ میں تھا۔	Bio sam u kampu.	بیو سام او کامپو۔

FREQUENT PHRASES – DICTIONARY FOR UASC

نيسام بيو او كامپو۔	Nisam bio u kampu.	میں کیمپ میں نہیں تھا۔
ایمام ستار اتیلیا۔	Imam staratelja.	میرا نگران ہے۔
نیمام ستار اتیلیا۔	Nemam staratelja.	میرا نگران نہیں ہے۔
بیو سام نا گیمو۔	Bio sam na game-u.	میں گیم پر گیا/گئی تھا/تھی۔
ایدم نا گیم۔	Idem na game.	میں گیم پر جا رہا/رہی ہوں۔
سپاواؤ سام ناپولیو۔	Spavao sam napolju.	میں باہر سویا/سوئی تھا/تھی۔
ازگوبیو سام ستواری۔	Izgubio sam stvari.	میرا سامان گم ہو گیا ہے۔